



سوال

(252) مسنون افطاری

جواب

السلام علیکم ورحمة اللہ وبرکاتہ

سنت کے مطابق روزہ کس چیز سے افطار کرنا چاہیے؟

الجواب بعون الوهاب بشرط صحة السؤال

و علیکم السلام ورحمة اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے پہلے تازہ کھجوروں سے روزہ افطار فرماتے، اگر تازہ کھجوریں نہ ملتیں تو خشک کھجور تناول فرمائیے، یہ بھی میسر نہ ہوتیں تو پانی کے چند گھونٹ پی لیا کرتے تھے۔ [1]

ہمیں چاہیے کہ اس سنت کا احیا کریں، کھجور جیسے مبارک پھل کو اپنے دسترخوان کا جزو بنانے کا اہتمام کریں۔ کھجور صرف پھل ہی نہیں بلکہ کھانے کا قائم مقام بھی ہے اگرچہ مغربی تہذیب نے سب کو بہت شہرت دی ہے جو یقیناً اللہ کی نعمت ہے لیکن ہمیں کھجور کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ (واللہ اعلم)

[1] البوداؤد، الصیام: ۲۳۵۶۔

هذا ما عندي والله اعلم بالصواب

فتاویٰ اصحاب الحدیث

جلد 4 - صفحہ نمبر: 234

محدث فتویٰ